



سوال

(25) بدعاں اور خرافات سے مسلک پھواؤں کا حکم

جواب

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته

جس طرح ماہ رجب کی بدعاں میں کونڈوں اور حلوہ پوری کا پھوآن مسلک ہے، اسی طرح ماہ محرم کی بدعاں میں ایک ییٹھا پھوآن بنام چونگا مشور ہے، کیا اس کو بنایا اور کھایا جاسکتا ہے، اور کیا ماہ محرم گذرنے پر اس کو بنایا کھایا جاسکتا ہے؟

الجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السوال

وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته!

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

کوئی بھی پھوآن یا کھانا اگر حلال اجزاء پر مشتمل ہو تو کسی بھی وقت پہا کر کھایا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر اسی علال پھوآن یا کھانے کو کسی بدعت کے ساتھ مسلک کر دیا جائے تو اسے کھانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ان بدعاں کی اسلام میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور نبی کریم ﷺ نے بدعاں سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ بدعاں کے ساتھ مسلک معروف کھانوں کو اگر آپ بدعت کی نیت سے نہیں پہکاتے، بلکہ ویسے تھی لذت دہن کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کھانوں کو آپ کسی بھی وقت پہا کر کھا سکتے ہیں، ہاں البتہ بدعاں کے معروف دنوں میں، ان سے مسلک کھانے پکانے سے اختیاط کرنی چاہیے تاکہ اہل بدعت یہ دلیل نہ پکڑیں کہ آپ نے بھی ان کی بدعت کے فروغ میں حصہ لیا ہے۔

حَمَدًا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالشَّمَاءُ عَلَيْهِ بِالصَّوَابِ

فتاویٰ بن باز رحمہ اللہ

جلد دوم